



Bank Alfalah
The Way Forward

Credit Card Summary Box / Key Fact Sheet

(Jul - Dec 2026)

کریڈٹ کارڈ سمری باکس / کی فیکٹ شیٹ
(جولائی تا دسمبر 2026)

The information contained in this box summarises key features of Credit Card and is not intended to replace any terms & conditions of the product. It is very important that you should carefully read the full terms & conditions before agreeing and signing this information.

اس باکس میں موجود معلومات کریڈٹ کارڈ کی اہم خصوصیات کا خلاصہ ہیں اور اس کا مقصد اس پراڈکٹ کی کسی بھی شرائط و ضوابط کی جگہ لینا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ ان معلومات سے متفق ہونے اور ان پر دستخط کرنے سے پہلے تمام شرائط و ضوابط کو بغور پڑھ لیں۔

Information	معلومات	Explanation	وضاحت
Joining Fee/Annual Fee جوائننگ فیس/سالانہ فیس		Card Type	کارت کی قسم
		Classic	کلاسیک
		Gold	گولڈ
		Optimus	آپٹیمس
		Platinum	پلاٹینم
		Premier Platinum*	پریمیئر پلاٹینم
		Ultra	الٹرا
		Signature	سگنیچر
Annual Fee Reversal Criteria* in 2 months سالانہ فیس کی واپسی کے لیے معیار* 2 ماہ کے اندر		Card Variant	کارت کی قسم
		Classic	کلاسیک
		Gold	گولڈ
		Optimus	آپٹیمس
		Platinum	پلاٹینم
		Signature	سگنیچر
		Basic	بیسک
		Supplementary	سپلیمنٹری

Basic Card = PKR 7,000/- Supplementary Cards = PKR 3,500/-	بنیادی کارڈ 7,000 روپے سپلیمنٹری کارڈز: 3,500 روپے
Basic Card = PKR 14,000/- Supplementary Cards = PKR 7,000/-	بنیادی کارڈ: 14,000 روپے سپلیمنٹری کارڈز 7,000 روپے
Basic Card = PKR 17,000/- Supplementary Cards = PKR 8,500/-	بنیادی کارڈ 17,000 روپے سپلیمنٹری کارڈز 8,500 روپے
Basic Card = PKR 23,000/- Supplementary Cards = PKR 11,500	بنیادی کارڈ 23,000 روپے سپلیمنٹری کارڈز 11,500 روپے
Basic Card = PKR 11,000/- Supplementary Cards = PKR 5,500/-	بنیادی کارڈ 11,000 روپے سپلیمنٹری کارڈز 5,500 روپے
Basic Card = Rs. 30,000/- (Reduced fee of Rs. 5,000/- will be charged after meeting spend criteria) Supplementary Card = Rs. 15,000/- (Reduced fee of Rs. 2,500/- will be charged after meeting spend criteria)	بنیادی کارڈ= 30,000 روپے اخراجات کی مقررہ شرط پوری کرنے پر کم شدہ فیس 5,000 (روپے وصول کی جائے گی) سپلیمنٹری کارڈ= 15,000 روپے اخراجات کی مقررہ شرط پوری کرنے پر کم شدہ فیس 2,500 روپے (وصول کی جائے گی)

*To be offered to Premier Account holders.

*پریمیئر اکاؤنٹ ہولڈرز کو آفر کی جائیں گی

For the latest updates, please contact our helpline at 021/042-111-225-111 or visit our website.

The customer must meet spending criteria for annual fee reversal within 2 months of the card activation date or the Basic/Supplementary Card's anniversary date.

Bank Alfalah Visa Ultra Cashback Cardholders are only eligible for 1st Year Annual Fee Waivers upon spending PKR 75,000 within 2 months of the card activation date.

Both Basic and Supplementary cardholders must complete their independent criteria to qualify for annual fee reversal. Annual fee is charged upon card activation and annually on the anniversary date. FED will not be subject to reversal under this policy.

Only Retail Spend (POS & E-Commerce) and Cash Advance will be considered as eligible spend.

Utility Bill Payment via Alfa, Alfa Mall transactions, QR, SBS, OSBS, COP, BTF do not qualify as retail spend transactions.

تازہ ترین معلومات کے لیے ہماری ہیلپ لائن 021/042-111-225-111 سے رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔
صارف کے لیے ضروری ہے کہ کارڈ ایکٹیویشن کی تاریخ یا بنیادی/ضمنی کارڈ کی سالانہ تاریخ کے بعد دو ماہ کے اندر سالانہ فیس کی واپسی کے لیے مقررہ اخراجات کی شرائط پوری کرے۔
بینک الفلاح ویزا الٹرا کیش بیک کارڈ ہولڈرز صرف اسی صورت میں پہلے سال کی سالانہ فیس کی معافی کے اہل ہوں گے جب وہ کارڈ ایکٹیویشن کی تاریخ سے 2 ماہ کے اندر 75,000 پاکستانی روپے خرچ کریں۔
بنیادی اور ضمنی دونوں کارڈ ہولڈرز کے لیے سالانہ فیس کی واپسی کے لیے اپنی اپنی مقررہ شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔
سالانہ فیس کارڈ ایکٹیویشن کے وقت اور ہر سال سالانہ تاریخ پر وصول کی جاتی ہے۔ ایف ای ڈی اس پالیسی کے تحت واپس نہیں کی جائے گی۔
صرف ریٹیل اخراجات (پی او ایس اور ای کامرس) اور کیش ایڈوانس کو اہل اخراجات میں شمار کیا جائے گا۔
الفلاح کے ذریعے بیوٹیٹی بل کی ادائیگی، الفامال کے لین دین، کیو آر، ایس بی ایس، سی او بی اور بی ٹی ایف کوریٹیبل اخراجات کے لین دین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

46% APR (APR) فیصد

$$APR = \frac{\text{Markup or Profit Paid for the Period}}{\text{Outstanding Principal Amount}} \times \frac{365}{\text{No. of Days}} \times 100$$

$$APR = \frac{\text{مقررہ مدت کے لیے ادا کی گئی مارک اپ یا منافع کی رقم}}{\text{بقایا اصل رقم}} \times \frac{365}{\text{دنوں کی تعداد}} \times 100$$

Example 1 (30-day cycle – 46% APR)

Customer has a credit limit of Rs. 100,000. His outstanding principal amount is Rs. 60,000, and he has paid markup/profit of Rs. 2,270 for a billing period of 30 days.

مثال 1 (30 دن سائیکل – 46 فیصد APR)

صارف کے کریڈٹ کارڈ کی حد روپے 100,000 ہے۔ اس کی بقایا اصل رقم 60,000 روپے ہے اور اس نے 30 دن کے بلنگ پیریڈ کے لیے 2,270 روپے بطور مارک اپ/منافع ادا کیا ہے۔

Outstanding Principal Amount = Rs. 60,000

Markup / Profit Paid = Rs. 2,270

Billing Period = 30 days

APR Calculation: $APR = (2,270 / 60,000) \times (365 / 30) \times 100 \approx 46\%$

Example 2 (31-day cycle – 46% APR)

Customer has a credit limit of Rs. 100,000. His outstanding principal amount is Rs. 75,000, and he has paid markup/profit of Rs. 2,925 for a billing period of 31 days.

مثال 2 (31 دن سائیکل – 46 فیصد APR)

صارف کے کریڈٹ کارڈ کی حد روپے 100,000 ہے۔ اس کی بقایا اصل رقم 75,000 روپے ہے اور اس نے 31 دن کے بلنگ پیریڈ کے لیے 2,925 روپے بطور مارک اپ/منافع ادا کیا ہے۔

Outstanding Principal Amount = Rs. 75,000

Markup / Profit Paid = Rs. 2,925

Billing Period = 31 days

APR Calculation: $APR = (2,925 / 75,000) \times (365 / 31) \times 100 \approx 46\%$

The APR varies from 46.00% to 26.00% for various transactions.

مختلف ٹرانزیکشنز کے لیے APR 46.00 فیصد سے 26.00 فیصد تک ہے۔

Annualised
Percentage Rate (APR)
Classic Credit Card only

سالانہ شرح فیصد (APR)
صرف کلاسیک کریڈٹ کارڈ
کے لیے

	• Credit Card transactions (Cash + Retail) @ 46% APR • Balance Transfer Facility 26.00% APR • Calculations on system will be done on a per day basis i.e. 365 days (366 for leap year) • کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز (کیش + ریٹیل) بحساب 46 فیصد APR • بیلنس ٹرانسفر کی سہولت 26.00 فیصد APR • سسٹم پر حساب کتاب فی دن کی بنیاد پر کیا جائے گا، یعنی 365 دن (لیپ سال کے لیے 366 دن)
All cards except Classic Credit Card تمام کارڈ سوائے کلاسیک کارڈ	45% APR (APR) فیصد 45 $APR = \frac{\text{Markup or Profit Paid for the Period}}{\text{Outstanding Principal Amount}} \times \frac{365}{\text{No. of Days}} \times 100$ $100 \times \frac{365}{\text{دنوں کی تعداد}} \times \frac{\text{مقررہ مدت کے لیے ادا کی گئی مارک اپ یا منافع کی رقم}}{\text{بقایا اصل رقم}} = APR$ Example 1 (30-day cycle) Customer has a credit limit of Rs. 100,000. His outstanding principal amount is Rs. 60,000, and he has paid markup/profit of Rs. 2,220 for a billing period of 30 days. مثال 1 (30 دن سائیکل) صارف کے کریڈٹ کارڈ کی حد روپے 100,000 ہے۔ اس کی بقایا اصل رقم 60,000 روپے ہے اور اس نے 30 دن کے بلنگ پیریڈ کے لیے 2,220 روپے بطور مارک اپ / منافع ادا کیا ہے۔ Outstanding Principal Amount = Rs. 60,000 بقایا اصل رقم = 60,000 روپے Markup / Profit Paid = Rs. 2,220 ادا کیا گیا مارک اپ / منافع = 2,220 روپے Billing Period = 30 days بلنگ پیریڈ = 30 دن APR Calculation: $APR = (2,220 / 60,000) \times (365 / 30) \times 100 \approx 45\%$ Example 2 (31-day cycle) Customer has a credit limit of Rs. 100,000. His outstanding principal amount is Rs. 75,000, and he has paid markup/profit of Rs. 2,925 for a billing period of 31 days. مثال 2 (31 دن سائیکل) صارف کے کریڈٹ کارڈ کی حد 100,000 روپے ہے۔ اس کی بقایا اصل رقم 75,000 روپے ہے اور اس نے 31 دن کے بلنگ پیریڈ کے لیے 2,860 روپے بطور مارک اپ / منافع ادا کیا ہے۔ Outstanding Principal Amount = Rs. 75,000 بقایا اصل رقم = 75,000 روپے Markup / Profit Paid = Rs. 2,860 ادا کیا گیا مارک اپ / منافع = 2,860 روپے Billing Period = 31 days بلنگ پیریڈ = 31 دن APR Calculation: $APR = (2,860 / 75,000) \times (365 / 31) \times 100 \approx 45\%$ Both examples show APR = 45% despite different billing cycles. The APR varies from 45.00% to 26.00% for various transactions. مختلف ٹرانزیکشنز کے لیے APR 45.00 فیصد سے 26.00 فیصد تک ہے۔ • Credit Card transactions (Cash + Retail) @ 45% APR • Balance Transfer Facility 26.00% APR • Calculations on system will be done on a per day basis i.e. 365 days (366 for leap year) • کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز (کیش + ریٹیل) بحساب 45 فیصد APR • بیلنس ٹرانسفر کی سہولت 26.00 فیصد APR • سسٹم پر حساب کتاب فی دن کی بنیاد پر کیا جائے گا، یعنی 365 دن (لیپ سال کے لیے 366 دن)

Markup Rates مارک اپ ریٹس	Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	Introductory Rate تعارفی ریٹ	Monthly Rate ماہانہ ریٹ	Annual Rate سالانہ ریٹ												
	Cash Advance کیش ایڈوانس	45.0% p.a. for 12 months 12 ماہ کیلئے بحساب APR فیصد 45.0	3.75% per month 3.75 فیصد ماہانہ	45.0% per annum 45.0 فیصد سالانہ												
	Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	45.0% p.a. for 12 months 12 ماہ کیلئے بحساب APR فیصد 45.0	3.75% per month 3.75 فیصد ماہانہ	45.0% per annum 45.0 فیصد سالانہ												
	Balance Transfer Facility Transactions بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز	26% p.a. for 12 months 12 ماہ کیلئے بحساب APR فیصد 26	2.16% per month 2.16 فیصد ماہانہ	26% per annum 26 فیصد سالانہ												
For further details on markup rates refer to Schedule of Charges at www.bankalfalah.com مارک اپ ریٹس کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے برائے مہربانی www.bankalfalah.com پر شیڈول آف بینک چارجز ملاحظہ کیجئے																
Markup Free Period مارک اپ سے پاک مدت	Up to 51 days (maximum) from statement date to next due date • Cash advance and Balance Transfer Facility transactions are excluded from the markup free period (زیادہ سے زیادہ 51 دن تک) • کیش ایڈوانس اور بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز مارک اپ سے پاک مدت میں شامل نہیں ہیں۔															
Markup Charging Information مارک اپ کی وصولی سے متعلق معلومات	No markup would be charged on transactions, if the payment of the outstanding amount is paid in full on or before the payment due date for each billing cycle. Otherwise, the period over which markup is charged for different credit card transactions will be mentioned as below: اگر ہر بلنگ سائیکل کے لیے پوری ادائیگی واجب الادا تاریخ پر یا اس سے قبل کی جا رہی ہے تو کوئی مارک اپ چارج نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر مختلف کریڈٹ کارڈز ٹرانزیکشنز کے لیے مارک اپ کی چارجنگ مدت ذیل میں درج ہے۔ <table><tr><td>Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم</td><td>From از</td><td>Until تائیل</td></tr><tr><td>Cash Advance کیش ایڈوانس</td><td>Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ</td><td>0.12% daily unless paid in full 0.12 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے</td></tr><tr><td>Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن</td><td>Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ</td><td>Paid in full مکمل ادائیگی</td></tr><tr><td>Balance Transfer Facility Transactions بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز</td><td>Date debited to customers account کسٹمر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے کی تاریخ</td><td>Paid in full مکمل ادائیگی</td></tr></table>				Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	From از	Until تائیل	Cash Advance کیش ایڈوانس	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	0.12% daily unless paid in full 0.12 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے	Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	Paid in full مکمل ادائیگی	Balance Transfer Facility Transactions بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز	Date debited to customers account کسٹمر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے کی تاریخ	Paid in full مکمل ادائیگی
Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	From از	Until تائیل														
Cash Advance کیش ایڈوانس	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	0.12% daily unless paid in full 0.12 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے														
Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	Paid in full مکمل ادائیگی														
Balance Transfer Facility Transactions بیلنس ٹرانسفر کی ٹرانزیکشنز	Date debited to customers account کسٹمر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے کی تاریخ	Paid in full مکمل ادائیگی														
For further details on markup rates refer to Schedule of Charges at www.bankalfalah.com مارک اپ ریٹس کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے برائے مہربانی www.bankalfalah.com پر شیڈول آف بینک چارجز ملاحظہ کیجئے																
Payments Allocation ادائیگیوں کا تعین	• In case of full payment of the total outstanding amount spent on the credit card within the billing date, no markup will be charged اگر کریڈٹ کارڈ پر پوری خرچ کی گئی رقم کی مکمل ادائیگی تاریخ ادائیگی پر یا اس سے قبل کی جا رہی ہے تو کوئی مارک اپ چارج نہیں ہے • In case of partial payments of the outstanding amount spent on the credit card. The payment will be subject to the following grid as per the payment sequence کریڈٹ کارڈ پر خرچ کی گئی رقم کی جزوی ادائیگی کی صورت میں ادائیگی کی ترتیب کے لحاظ سے مندرجہ ذیل گرڈ سے مشروط ہوگی <table><tr><td>Payment Sequence ادائیگی کی ترتیب</td><td>Payments Category ادائیگی کی کیٹیگری</td></tr><tr><td>1</td><td>Billed Service Charges بل کیے گئے سروس چارجز</td></tr><tr><td>2</td><td>Billed Cash Advance بل کیا گیا ایڈوانس</td></tr><tr><td>3</td><td>Billed Retail بل کیا گیا ریٹیل</td></tr><tr><td>4</td><td>Billed Balance Transfer بل کیا گیا بیلنس ٹرانسفر</td></tr></table>				Payment Sequence ادائیگی کی ترتیب	Payments Category ادائیگی کی کیٹیگری	1	Billed Service Charges بل کیے گئے سروس چارجز	2	Billed Cash Advance بل کیا گیا ایڈوانس	3	Billed Retail بل کیا گیا ریٹیل	4	Billed Balance Transfer بل کیا گیا بیلنس ٹرانسفر		
Payment Sequence ادائیگی کی ترتیب	Payments Category ادائیگی کی کیٹیگری															
1	Billed Service Charges بل کیے گئے سروس چارجز															
2	Billed Cash Advance بل کیا گیا ایڈوانس															
3	Billed Retail بل کیا گیا ریٹیل															
4	Billed Balance Transfer بل کیا گیا بیلنس ٹرانسفر															

Minimum Monthly Repayments کم از کم ماہانہ ادائیگی	{Principal Balance * 1% + Over Limit Amount (if any) + SBS installment (If any) + Total Billed Markup + Total Billed Charges} or PKR 500 whichever is higher پرنسپل بیلنس 1 فیصد + حد سے زائد رقم (اگر کوئی ہو) + ایس بی ایس انسٹالمنٹ (اگر کوئی ہو) + بل کیا گیا کل مارک اپ + بل کیے گئے + کل چارجز یا 500 روپے جو بھی زیادہ ہو۔ <i>'If you make a minimum payment, markup will be charged on the remaining balance after due date, so it will cost more and take longer to clear the balance. Markup free period is also lost if any balance of the previous month's bill is outstanding.'</i> کم از کم ادائیگی کی صورت میں بقیہ واجب الادا رقم پرا دائیگی کی حتمی تاریخ گزرنے کے بعد مارک اپ وصول کیا جائے گا، اس طرح اس کی لاگت زیادہ ہوگی اور بیلنس کلیئر ہونے میں زیادہ وقت لگے گا۔ گذشتہ ماہ کا بیلنس باقی ہونے کی صورت میں مارک اپ سے پاک مدت بھی ضائع ہو جائے گی۔																																			
Card Limits (PKR) کارڈ کی حد (روپے)	<table><thead><tr><th>Card Type کارڈ کی قسم</th><th>Min Limit کم سے کم حد</th><th>Maximum Limit زیادہ سے زیادہ حد</th><th>Cash Withdrawal Limit کیش نکالنے کی حد</th></tr></thead><tbody><tr><td>Classic کلاسک</td><td>25,000 ۲۵۰۰۰</td><td>180,000 ۱۸۰۰۰۰</td><td>50% of the limit حد کا 50 فیصد</td></tr><tr><td>Gold گولڈ</td><td>200,000 ۲۰۰۰۰۰</td><td>650,000 ۶۵۰۰۰۰</td><td>50% of the limit حد کا 50 فیصد</td></tr><tr><td>Optimus آپٹیمس</td><td>300,000 ۳۰۰۰۰۰</td><td>1,000,000 ۱۰۰۰۰۰۰</td><td>50% of the limit حد کا 50 فیصد</td></tr><tr><td>Platinum پلاٹینم</td><td>750,000 ۷۵۰۰۰۰</td><td>7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰</td><td>50% of the limit حد کا 50 فیصد</td></tr><tr><td>Premier Platinum پریمیئر پلاٹینم</td><td>750,000 ۷۵۰۰۰۰</td><td>7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰</td><td>50% of the limit حد کا 50 فیصد</td></tr><tr><td>Ultra الٹرا</td><td>25,000 ۲۵۰۰۰</td><td>199,000 ۱۹۹۰۰۰</td><td>50% of the limit حد کا 50 فیصد</td></tr><tr><td>Signature سگنیچر</td><td>2,000,000 ۲۰۰۰۰۰۰</td><td>7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰</td><td>50% of the limit حد کا 50 فیصد</td></tr></tbody></table>	Card Type کارڈ کی قسم	Min Limit کم سے کم حد	Maximum Limit زیادہ سے زیادہ حد	Cash Withdrawal Limit کیش نکالنے کی حد	Classic کلاسک	25,000 ۲۵۰۰۰	180,000 ۱۸۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد	Gold گولڈ	200,000 ۲۰۰۰۰۰	650,000 ۶۵۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد	Optimus آپٹیمس	300,000 ۳۰۰۰۰۰	1,000,000 ۱۰۰۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد	Platinum پلاٹینم	750,000 ۷۵۰۰۰۰	7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد	Premier Platinum پریمیئر پلاٹینم	750,000 ۷۵۰۰۰۰	7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد	Ultra الٹرا	25,000 ۲۵۰۰۰	199,000 ۱۹۹۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد	Signature سگنیچر	2,000,000 ۲۰۰۰۰۰۰	7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد	3 ملین سے زائد کی کریڈٹ حد صرف پرائم کسٹمرز کے لیے ہے۔ Credit limit over 3 Million only for Prime customers.		
Card Type کارڈ کی قسم	Min Limit کم سے کم حد	Maximum Limit زیادہ سے زیادہ حد	Cash Withdrawal Limit کیش نکالنے کی حد																																	
Classic کلاسک	25,000 ۲۵۰۰۰	180,000 ۱۸۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد																																	
Gold گولڈ	200,000 ۲۰۰۰۰۰	650,000 ۶۵۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد																																	
Optimus آپٹیمس	300,000 ۳۰۰۰۰۰	1,000,000 ۱۰۰۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد																																	
Platinum پلاٹینم	750,000 ۷۵۰۰۰۰	7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد																																	
Premier Platinum پریمیئر پلاٹینم	750,000 ۷۵۰۰۰۰	7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد																																	
Ultra الٹرا	25,000 ۲۵۰۰۰	199,000 ۱۹۹۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد																																	
Signature سگنیچر	2,000,000 ۲۰۰۰۰۰۰	7,000,000 ۷۰۰۰۰۰۰	50% of the limit حد کا 50 فیصد																																	
Charges چارجز	<table><tbody><tr><td>Pay via Bank Alfalah Credit Card on Alfa App & Web الفا ایپ اور ویب پر بینک الفلاح کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی</td><td colspan="3">0.75% + FED of Transaction Amount ٹرانزیکشن رقم کا 0.75 فیصد + فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (FED)</td></tr><tr><td>POS Decline Transaction Fee (International Transactions) پی او ایس مسترد شدہ ٹرانزیکشن فیس (بین الاقوامی ٹرانزیکشنز)</td><td colspan="3">Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن</td></tr><tr><td>E-Commerce Decline Transaction Fee ای کامرس میں ڈیکلائن ہونے کی ٹرانزیکشن فیس</td><td colspan="3">Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن</td></tr><tr><td>Card Maintenance Charges کارڈ مینٹیننس چارجز</td><td colspan="3">Rs. 1,000/- 1,000 روپے</td></tr><tr><td>Cash Advance کیش ایڈوانس</td><td colspan="3">Rs. 1,200/- or 3% of cash advance amount, whichever is higher 1,200 روپے یا کیش ایڈوانس کا 3.0 فیصد، جو بھی زیادہ ہو</td></tr><tr><td>SBS Processing Fee ایس بی ایس پروسیسنگ فیس</td><td colspan="3">Minimum 2.5% or Rs 1,500 whichever is higher, to maximum up to 25% + FED 1,500 روپے یا ٹرانزیکشن کی رقم کا 2.5 فیصد، جو بھی زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ 25 فیصد + ایف ای ڈی تک</td></tr><tr><td>BTF Processing Fee: بی ٹی ایف پروسیسنگ فیس</td><td colspan="3">Rs. 600/- or 2.5% of transaction amount, whichever is higher 600 روپے یا لین دین کی رقم کا 2.5 فیصد، جو بھی زیادہ ہو۔</td></tr><tr><td>Utility Bill Payment یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی</td><td colspan="3">Rs. 50/- per utility bill (below 5,000 through Call, Direct Debit, Alfa) Rs. 65/- per utility bill (above 5,000 through Call, Direct Debit, Alfa) 50 روپے فی یوٹیلیٹی بل بذریعہ (5,000 سے کم، بذریعہ کال، ڈائریکٹ ڈیبٹ، الفا) 65 روپے فی یوٹیلیٹی بل بذریعہ (5,000 سے زائد، بذریعہ کال، ڈائریکٹ ڈیبٹ، الفا)</td></tr></tbody></table>				Pay via Bank Alfalah Credit Card on Alfa App & Web الفا ایپ اور ویب پر بینک الفلاح کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی	0.75% + FED of Transaction Amount ٹرانزیکشن رقم کا 0.75 فیصد + فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (FED)			POS Decline Transaction Fee (International Transactions) پی او ایس مسترد شدہ ٹرانزیکشن فیس (بین الاقوامی ٹرانزیکشنز)	Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن			E-Commerce Decline Transaction Fee ای کامرس میں ڈیکلائن ہونے کی ٹرانزیکشن فیس	Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن			Card Maintenance Charges کارڈ مینٹیننس چارجز	Rs. 1,000/- 1,000 روپے			Cash Advance کیش ایڈوانس	Rs. 1,200/- or 3% of cash advance amount, whichever is higher 1,200 روپے یا کیش ایڈوانس کا 3.0 فیصد، جو بھی زیادہ ہو			SBS Processing Fee ایس بی ایس پروسیسنگ فیس	Minimum 2.5% or Rs 1,500 whichever is higher, to maximum up to 25% + FED 1,500 روپے یا ٹرانزیکشن کی رقم کا 2.5 فیصد، جو بھی زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ 25 فیصد + ایف ای ڈی تک			BTF Processing Fee: بی ٹی ایف پروسیسنگ فیس	Rs. 600/- or 2.5% of transaction amount, whichever is higher 600 روپے یا لین دین کی رقم کا 2.5 فیصد، جو بھی زیادہ ہو۔			Utility Bill Payment یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی	Rs. 50/- per utility bill (below 5,000 through Call, Direct Debit, Alfa) Rs. 65/- per utility bill (above 5,000 through Call, Direct Debit, Alfa) 50 روپے فی یوٹیلیٹی بل بذریعہ (5,000 سے کم، بذریعہ کال، ڈائریکٹ ڈیبٹ، الفا) 65 روپے فی یوٹیلیٹی بل بذریعہ (5,000 سے زائد، بذریعہ کال، ڈائریکٹ ڈیبٹ، الفا)		
Pay via Bank Alfalah Credit Card on Alfa App & Web الفا ایپ اور ویب پر بینک الفلاح کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی	0.75% + FED of Transaction Amount ٹرانزیکشن رقم کا 0.75 فیصد + فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (FED)																																			
POS Decline Transaction Fee (International Transactions) پی او ایس مسترد شدہ ٹرانزیکشن فیس (بین الاقوامی ٹرانزیکشنز)	Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن																																			
E-Commerce Decline Transaction Fee ای کامرس میں ڈیکلائن ہونے کی ٹرانزیکشن فیس	Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن																																			
Card Maintenance Charges کارڈ مینٹیننس چارجز	Rs. 1,000/- 1,000 روپے																																			
Cash Advance کیش ایڈوانس	Rs. 1,200/- or 3% of cash advance amount, whichever is higher 1,200 روپے یا کیش ایڈوانس کا 3.0 فیصد، جو بھی زیادہ ہو																																			
SBS Processing Fee ایس بی ایس پروسیسنگ فیس	Minimum 2.5% or Rs 1,500 whichever is higher, to maximum up to 25% + FED 1,500 روپے یا ٹرانزیکشن کی رقم کا 2.5 فیصد، جو بھی زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ 25 فیصد + ایف ای ڈی تک																																			
BTF Processing Fee: بی ٹی ایف پروسیسنگ فیس	Rs. 600/- or 2.5% of transaction amount, whichever is higher 600 روپے یا لین دین کی رقم کا 2.5 فیصد، جو بھی زیادہ ہو۔																																			
Utility Bill Payment یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی	Rs. 50/- per utility bill (below 5,000 through Call, Direct Debit, Alfa) Rs. 65/- per utility bill (above 5,000 through Call, Direct Debit, Alfa) 50 روپے فی یوٹیلیٹی بل بذریعہ (5,000 سے کم، بذریعہ کال، ڈائریکٹ ڈیبٹ، الفا) 65 روپے فی یوٹیلیٹی بل بذریعہ (5,000 سے زائد، بذریعہ کال، ڈائریکٹ ڈیبٹ، الفا)																																			

	Foreign Transactions غیر ملکی ٹرانزیکشنز	4.5% or Rs. 125/- which ever is higher. Third currency transactions will be first converted into US Dollars as per rate quoted under arrangement with Visa and Master Card. Cross border transaction fee will also be charged as per Visa/Master Card rules (Same to be applied for DCC transactions) زیادہ سے زیادہ 4.5 فیصد یا 125 روپے۔ تیسری کرنسی ٹرانزیکشنز کو سب سے پہلے ویزا اور ماسٹر کارڈ کے تحت بتائی گئی شرح کے مطابق امریکی ڈالر میں تبدیل کیا جائے گا۔ کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس بھی ویزا/ماسٹر کارڈ کے قواعد کے مطابق وصول کی جائے گی (ڈی سی سی ٹرانزیکشنز کے لیے بھی اسی کا اطلاق کیا جائے گا)
	Over limit Fee اوور لمٹ فیس	2% Of the over limit amount or PKR 1,600/- whichever is higher Note: Excess over-limit fee is charged on your credit cards when principal outstanding exceeds the limit. It is charged on a recurring monthly basis until the outstanding is adjusted to fall below the allowed limit. اوور لمٹ رقم کا 2 فیصد یا 1,600 روپے، جو بھی زیادہ ہو نوٹ: جب پرنسپل واجبات حد سے تجاوز کر جائیں تو آپ کے کریڈٹ کارڈ پر زائد فیس وصول کی جاتی ہے۔ یہ چارجز مدتی بنیاد پر ماہانہ وصول کیے جائیں گے جب تک کہ واجبات کی ادائیگی نہ ہو جائے اور وہ منظور کردہ حد کے اندر نہ آجائیں۔
	Flip Fee (Ultra) فلیپ فیس (الٹرا)	PKR 2,000/- 2,000 روپے
	Flip Fee (Ultra) – Applies when a customer: - Changes existing card (i.e. Classic, Gold, Optimus & Platinum) to Ultra - Changes selected category (i.e. Super Market, Fuel, Clothing, Hotel, Airlines and Hospitals) اس کا اطلاق ہوتا ہے جب کسٹمر: - موجودہ کارڈ تبدیل کرتا ہے (یعنی کلاسک، گولڈ، آپٹیمس اور پلاٹینم) سے الٹرا میں - منتخب کردہ کیٹیگری تبدیل کرتا ہے (یعنی سپر مارکیٹ، فیول، کپڑے، ہوٹل، ایئر لائنز اور اسپتال)	
	Card Replacement fee کارڈ تبدیل کرنے کی فیس	PKR 1,500 for all cards except Optimus and Platinum PKR 2,500 for Optimus and Platinum 1,500 روپے کے تمام کارڈز کے لیے، علاوہ آپٹیمس اور پلاٹینم 2,500 روپے پلاٹینم اور آپٹیمس کے لیے
	Card Upgradation Fee کارڈ اپ گریڈ کرنے کی فیس	Classic, Gold, PKR 1,000/- Platinum, Optimus PKR 2,000/- Signature PKR 2,000/- کلاسک، گولڈ، 1000 روپے پلاٹینم آپٹیمس 2,000 روپے سگنچر 2,000 روپے
	Copy of statement fee اسٹیٹمنٹ کی نقل کی فیس	None کوئی نہیں
For further details on charges refer to *SOC at www.bankalfalah.com چارجز کی مزید معلومات کے لیے www.bankalfalah.com پر شیڈول آف چارجز ملاحظہ کیجئے۔		
Default Charges ڈیفالٹ چارجز	Late Payment Charges تاخیری ادائیگی کے چارج	Rs. 2,500/- 2,500 روپے
	Cheque Return Charges/ Rejected Auto Pay Service fee چیک کی واپسی / آٹو پیے سروس مسترد ہونے کے چارجز	Rs. 1,200/- 1,200 روپے
Cancellation Charges منسوخی کے چارجز	No cancellation charges منسوخی کے کوئی چارجز نہیں	
Renewal Charges تجدید کے چارجز	No renewal charges تجدید کے کوئی چارجز نہیں	
Expiry معیاد کا خاتمہ	5 years from the date of card issuance کارڈ کے اجراء کی تاریخ سے 5 سال	

Insurance Coverage انشورنس کوریج	Credit Cover Premium: 0.85% of outstanding amount کریڈٹ کو پریمئیم واجب الادا رقم کا 0.85 فیصد Upon customer request, the Bank will provide coverage on the credit card outstanding amount for the reason of temporary disability or prolonged illness up to 45 days and in case of death کسٹمر کی درخواست پر بینک کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے عارضی معذوری یا 45 دن تک کی طویل بیماری کی صورت میں کوریج فراہم کرے گا۔ اور انتقال کی صورت میں For further details on terms and conditions refer to www.bankalfalah.com شرائط و ضوابط پر معلومات کے لیے www.bankalfalah.com ملاحظہ کیجئے۔
How can you get assistance or make a complaint? آپ رہنمائی کیسے حاصل کریں گے یا شکایت کیسے درج کروائیں گے؟	رابطے کی تفصیلات بینک الفلاح لمیٹڈ کمپلیٹ منیجمنٹ یونٹ، چھٹی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 1، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی۔ ہیلپ لائن: (+92 21) 111-225-111 ای میل: contactus@bankalfalah.com ویب سائٹ: https://www.bankalfalah.com/ سنوائی لنک: https://sunwai.sbp.org.pk/ Contact Information: Bank Alfalah, Complaint Management Unit, 6th Floor, State Life Building no. 1, II Chundrigarh Road, Karachi. Helpline: (+92 21) 111-225-111 Email: contactus@bankalfalah.com Website: https://www.bankalfalah.com/ Sunwai Link: https://sunwai.sbp.org.pk/
Contact-less Transaction کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن	Please note that for contact-less transactions up to PKR 3,000/- , customer may simply tap their card on a contact-less-enabled POS terminal without inserting PIN. Furthermore, single transaction limits for NFC (Contact-less) transactions are set by the acquiring bank (merchant's bank) and may vary across different regions. براہ کرم نوٹ کریں کہ 3,000 روپے تک کی کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن کے لیے صارف محض اپنا کارڈ کانٹیکٹ لیس یعنی پی او ایس سہولت والی مشین پر بغیر پین درج کیے ٹیپ کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن کی فی ٹرانزیکشن حد ایکوائرننگ بینک (مرچنٹ کا بینک) مقرر کرتا ہے، جو مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔
EOL ای او ایل	EOL means Excess Over Limit, which refers to a cardholder's account that has surpassed its assigned/approved credit limit. Excess Over Limit (EOL) charges will apply as per the bank's SOBC if your outstanding balance exceeds your credit limit until the outstanding is adjusted below the assigned limit. EOL Charges will also apply on recurring transactions/legitimate transactions irrespective of your enrollment in the EOL facility. For your convenience Bank Alfalah offers you the facility of going over limit up to 10% on your credit card. EOL سے مراد 'اضافی حد سے تجاوز' ہے، یعنی ایسا کارڈ ہولڈر جس کا اکاؤنٹ اس کی مقررہ/منظور شدہ کریڈٹ حد سے تجاوز کر چکا ہو۔ اگر آپ کا بقایا بیلنس کریڈٹ حد سے تجاوز کرے تو (EOL) چارجز بینک کے شیڈول آف چارجز (SOBC) کے مطابق لاگو ہوں گے۔ یہ چارجز اس وقت تک نافذ رہیں گے جب تک بقایا رقم مقررہ حد سے کم نہ ہو جائے۔ یہ چارجز بار بار ہونے والی یا باقاعدہ ٹرانزیکشنز پر بھی لاگو ہوں گے، خواہ آپ نے EOL سہولت میں شمولیت اختیار کی ہو یا نہیں۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر بینک الفلاح آپ کو کریڈٹ کارڈ پر 10 فیصد تک سہولت فراہم کرتا ہے۔

*For all fee lines FED applies.

*تمام فیس لائنز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو ہے۔

By signing this document:

I confirm that I have carefully read and fully understood the contents herein.

I acknowledge receipt of a copy of the Bank Alfalah Key Fact Statement for Credit Card.

میں نے اس دستاویز کو بغور پڑھ لیا ہے:
اور میں دستخط کر کے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے موجود مواد کو احتیاط سے پڑھا اور پوری طرح سمجھ لیا ہے۔
میں یہ بھی تصدیق کرتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ کے لیے بینک الفلاح کلیدی حقیقت بیان کی ایک کاپی وصول کر لی ہے۔

Customer's Signature and Date

کسٹمر کے دستخط اور تاریخ

Authorised Banker's Signature, Stamp and Date

بینک کے مجاز افسر کے دستخط، مہر اور تاریخ

*SOC = Schedule Of Charges

*p.m. = per month

*p.a. = per annum